



اگر تم چاہو تو صبر کرو تمہیں اس پر جنت ملے گی اور اگر چاہو تو میں تمہارا لیے اللہ سے اس مرض سے نجات کی دعا کر دیتا ہوں

عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے عطاء بن ابی رباح سے کہا کہ کیا تمہیں میں ایک جنتی عورت کو نہ دکھاؤں؟ عطاء بن ابی رباح کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ضرور دکھائیں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک سیاح فام عورت نبی کی خدمت میں آئی اور کہنے لگی کہ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور اس کی وجہ سے میرا ستر کھل جاتا ہے میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے آپ نے فرمایا: ”اگر تم چاہو تو صبر کرو تمہیں اس پر جنت ملے گی اور اگر چاہو تو میں تمہارا لیے اللہ سے اس مرض سے نجات کی دعا کر دیتا ہوں“ اس نے عرض کیا کہ میں صبر کروں گی پھر اس نے کہا کہ (مرگی کے وقت) میرا ستر کھل جاتا ہے، آپ دعا فرما دیں کہ میرا ستر نہ کھلا کرے چنانچہ آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی

[صحیح] [متفق علیہ]

حدیث شریف میں اس بات کا بیان ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اپنے شاگرد عطاء بن ابی رباح رحمہ اللہ علیہ سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا: کیوں نہیں! حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اس سیاح فام عورت کو دیکھ لو سیاح فام عورت جس کی طرف توجہ بھی نہیں جاتی اور زیادہ تر لوگ اس پر ہنچانتے تک نہیں اسے مرگی کا دورہ پڑتا اور اس کا ستر کھل جاتا تھا اس نے نبی کی کو اس بارے میں بتایا اور آپ سے گزارش کی کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اسے مرگی کے مرض سے شفاء مل جائے تو رسول اللہ نے اس سے فرمایا: ”اگر تم چاہو تو میں اللہ سے تمہارا لیے دعا کر دیتا ہوں اور اگر تم چاہو تو پھر صبر کرو اور اس کے بدلے میں تمہیں جنت ملے گی“ تو اس نے جواب دیا کہ میں صبر کرتی ہوں اگرچہ اس عورت کو مرگی کی وجہ سے درد اور اذیت ہوتی تھی لیکن اس نے جنت کو پانے کے لیے صبر کو اختیار کیا تاہم اس نے آپ سے کہا کہ اللہ کے رسول! میرا ستر کھل جاتا ہے اللہ سے دعا کر دیں کہ میرا ستر نہ کھلائے چنانچہ نبی نے اللہ سے دعا فرمائی کہ وہ ننگی نہ ہوا کرے بعد ازاں اسے مرگی کا دورہ تو پڑتا لیکن اس کا ستر نہ کھلتا تھا

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/3160>